

ایک سنہری موقع!

جو بنائے محفوظ آپ کے مستقبل کو

زندگی ناقابل بھروسہ ہے اور اس کو اچھی طرح گزارنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ بچت کریں تاکہ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکیں اور خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ ہم آپ کے لئے لائیں ہیں ایک ایسا سیونگنز پلان (بچت منصوبہ) جو آپ کو باہم پہنچائے مالی آسودگی اور خاطر خواہ منافع جس کی بدولت آپ کو ملیں گی ڈھیروں خوشیاں اور فکروں سے آزاد زندگی۔

اُن فوائد سے فائدہ اٹھائیں

جو ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں

- یکمشت رقم کی ادائیگی پلان کی مقررہ مدت کی تکمیل پر جس کی مدد سے آپ پوری کر سکیں اپنی ضروریات
- فنڈ ایکسلریشن پریمیم کی مدد سے یقینی اضافی منافع
- لائٹی بونس فراہم کریں آپ کے سرمائے کو افزائش کا موقع
- سیونگنز پلان کے ساتھ آپ انتخاب کر سکتے ہیں انتہائی پُرکشش اضافی بینیفٹس



سرمائے میں اضافے کے موقع:

آپ کی اس پلان کیلئے فراہم کردہ رقم سے ای ایف یو میٹجڈ گروتھ فنڈ کے یونٹس کی خریداری کی جائے گی۔ یہ ایک یونٹس کی اکائیوں سے منسلک فنڈ ہے جو کہ ایک متعادل نوعیت میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس فنڈ کا مقصد سرمائے کی افزائش کو معتدل طریقے سے سرمایہ کاری کر کے یقینی بنانا ہے جس کیلئے اس فنڈ میں موجود رقم کی سرمایہ کاری اسٹاک مارکیٹ، گورنمنٹ فکسڈ انکم سیکیورٹیز اور کیش میں کی جاتی ہے۔ سرمایہ کاری کا یہ سار عمل تجربہ کار ماہرین یعنی فنڈ مینجری کی زیر نگرانی کیا جاتا ہے جو اس امر کو یقینی بناتے ہیں کہ اس تمام رقم کو معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جگہوں پر درست تناسب سے سرمایہ کاری کی جائے تاکہ صارفین کو یقینی فائدہ فراہم کیا جاسکے۔

یونٹ ایکلیکیشن اسٹریکچر:

پالیسی سال	یونٹ ایکلیکیشن کا تناسب
1	40%
2	80%
3	90%
4 سے 10	100%
11 سے آگے	100% + لائٹی بونس

یونٹس کی اکائیوں کے لئے (FAP) فنڈ ایکسلریشن پریمیم یونٹ ایکلیکیشن کا تناسب 100% ہوگا۔

لائٹی بونس:

اس پلان کو جتنے زیادہ عرصے کیلئے جاری رکھا جائے گا اتنے ہی زیادہ فوائد کا حصول ہوگا۔ یہ پلان آپ کو قابل ذکر لائٹی بونس اضافی یونٹس کی شکل میں فراہم کرتا ہے۔ اگر اس پلان کو شروع کرنے کے بعد 11 سال تک وضع کردہ اصولوں کے مطابق جاری رکھا جائے تو گیارہویں سال کے بعد ہر پانچ سال پر صارف کو یہ بونس فراہم کیا جائے گا۔

سال	لائٹی بونس کے تحت اضافی یونٹ ایکلیکیشن کا تناسب
11	30%
16	45%
21	60%
26	75%
31	90%
اور اسی طرح	

اس پلان کے تحت ملنے والے فوائد:

فنڈ ایکسلریشن پریمیم

اس بینیفٹ کے تحت پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی رقم کی سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے۔ اس بینیفٹ کی مدد سے صارف پلان کی میچورٹی پر ملنے والی رقم کو بڑھا سکتا ہے۔ صارف FAP کی ادائیگی پلان لیتے وقت یا پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔

سرمایہ کاری حفاظت کے ساتھ۔ ڈیٹھ بینیفٹ

آپ جیسے ہی انویسٹ این اشور سیونگنز پلان میں سرمایہ کاری کا آغاز کریں گے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو حاصل ہوگا ایک یقینی مالی تحفظ جو خدا نخواستہ وفات کی صورت میں آپ کے پیاروں کو فراہم کیا جائے گا۔

- زیر بیمہ یا بنیادی پلان کی نقد مالیت میں جو بھی زیادہ ہو۔

پلس

- فنڈ ایکسلریشن پریمیم کے تحت لئے گئے یونٹس کی نقد مالیت



کیونکہ بچت ایک ضرورت ہے

میڈیکل ریکوری
بینیفٹ
یہ ایک میڈیکل انشورنس بینیفٹ ہے جو صارف کی علالت کی صورت میں 379 بیماریوں اور زخمی ہونے کی صورت میں واجب الادا ہوگا۔

* ان میں سے کوئی ایک ایکسیڈنٹل رائیڈر لے سکتے ہیں۔

چار جز:

انویسٹ منجمنٹ چارج: کل سرمائے کا 0.125 فیصد
بڈ آفر اسپرٹ: کل پریمیم کا 5 فیصد
ایڈمنسٹریشن چارج: 360 روپے سالانہ

ڈسکلیمر:

- یہ پراڈکٹ EFU لائف اشورنس کی جانب سے انڈر رائٹ کی گئی ہے۔ لہذا اس میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کی کسی قسم کی ضمانت یا گارنٹی شامل نہیں اور نہ ہی یہ پراڈکٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کی ہے۔ کسی بھی قسم کے کلیم یا مسائل کا حل تصفیہ EFU لائف اشورنس کی ذمہ داری ہے۔
- سروس چارجز اور ٹیکسز کا اطلاق شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوگا جو کہ ٹیکس قوانین کی روشنی میں مروج شدہ ہیں جو ریگولیٹری اداروں نے ترتیب دیئے ہیں۔
- اس معاہدے کے اطلاق کے حوالے سے تفصیل پالیسی دستاویزات میں موجود ہے۔ یہ بروشر پراڈکٹ کے حوالے سے محض ایک معلوماتی جائزہ ہے جس میں اس کے تحت فراہم کردہ فوائد اور خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ

۳۷-کے، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، کراچی ۷۴۰۰، پاکستان
فیکس: (۱۲۰) ۳۵۴۳ ۹۱۵۷ ای میل: csd@efulife.com
یو اے این: (۰۲۱) ۱۱۱-ای ایف یو-۱۱۱ (۱۱۱-۳۳۸-۱۱۱)

اہلیت کا معیار:

کم از کم پریمیم	مدت	عمر
بنیادی پلان 15,000 روپے سالانہ	تمام زندگی کا بیمہ مخصوص مدت نہیں ہے	کم از کم عمر 18 سال
FAP 15,000 روپے		زیادہ سے زیادہ عمر 65 سال

رائیڈرز:

* ایکسیڈنٹل ڈیٹھ اینڈ سبیلٹی بینیفٹ	بیمہ دار کو کسی حادثے کی صورت میں موت واقع ہو جائے یا معذوری لاحق ہو جائے تو اس فیچر کی بدولت اضافی یکمشت رقم ملے گی۔
* ایکسیڈنٹل ڈیٹھ اینڈ سبیلٹی بینیفٹ پلس	حادثاتی موت و جزوقتی معذوری کے علاوہ اس فیچر کی مدد سے ایک یکمشت رقم ادا کی جائے گی۔ جو کسی بھی قسم کی مکمل معذوری (جو کسی حادثے کی صورت میں لاحق ہوئی ہو)
ایڈیشنل ٹرم اشورنس	اس فیچر کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ صارف اپنی بیمہ پالیسی کی رقم کو بڑھا سکتا ہے جو کہ وفات کی صورت میں ادا کی جائیگا۔
فیملی انکم بینیفٹ	صارف اس بینیفٹ کی مدت کے دوران موت کی صورت میں اُس کے پیاروں کو ماہانہ آمدنی کی ادائیگی کی جائیگی جو کہ باقی ماندہ مدت تک فراہم کی جاتی رہے گی۔
لائف کیئر بینیفٹ پلس	اس کے حصول سے صارف کو بنیادی پلان کے مساوی ایک اضافی رقم حاصل ہوتی ہے جس کی حد زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ ہوتی ہے اور یہ رقم 15 مخصوص انتہائی جان لیوا بیماریوں سے کسی بھی ایک یا زائد کی تشخیص پر ادا کی جاتی ہے۔
ویور آف پریمیم	اگر صارف کسی بھی بیماری یا حادثات معذوری کی وجہ سے اپنا ذریعہ معاش جاری نہ رکھ سکے جس کی وجہ سے پریمیم کی ادائیگی ناممکن ہو جائے تو اس کی بدولت پریمیم کی بقایا ادائیگی مبنی کرے گا۔
ہاسپٹل کیئر بینیفٹ	صارف کے ہسپتال داخل ہونے کی صورت میں یہ بینیفٹ روزانہ کی بنیاد پر ایک رقم فراہم کرے گا۔